



## پی سی بی کی ثناء میر کو آئی سی سی ویمنز کمیٹی میں شمولیت پر مبارکباد

- کرکٹ کے اعلیٰ ترین فورم پر موجودہ کرکٹرز کی نمائندگی کرنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے، ثناء میر
- ایم ڈی پی سی بی وسیم خان بھی کمیٹی کے رکن ہیں

لاہور ، 19 جولائی 2019 ء :

پاکستان کرکٹ بورڈ قومی خواتین کرکٹ کی رول ماڈل ثناء میر کو آئی سی سی ویمنز کمیٹی میں شمولیت پر مبارکباد پیش کرتا ہے۔ ثناء میر کمیٹی میں شامل تین موجودہ خواتین کھلاڑیوں میں سے ایک ہیں۔ انگلینڈ کی سابق خاتون کرکٹر کلئیر کانر کو کمیٹی کی چیئرپرسن برقرار رکھا گیا ہے۔

کمیٹی میں قومی خواتین کرکٹ ٹیم کی سابق کپتان اور ایک روزہ کرکٹ میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے والی اسپنر ثناء میر کے علاوہ آسٹریلیا کی خاتون کرکٹر لیسا سٹالیکر اور بھارتی کھلاڑی مٹھالی راج شامل ہیں۔ کمیٹی کا پہلا اجلاس گذشتہ روز آئی سی سی کی سالانہ کانفرنس کے دوران منعقد ہوا۔

اس موقع پر چیئرمین مین پی سی بی احسان مانی کا کہنا ہے "پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے میں ثناء میر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ ثناء میر اپنے وسیع تجربے کی بنیاد پر خواتین کرکٹ کے فروغ میں اہم کردار ادا کریں گی۔"

" ثناء میر کی حالیہ کامیابی قومی سطح پر خواتین کرکٹرز کی حوصلہ افزائی کا سبب ہے

جو ہمیں ملک میں خواتین کرکٹ کے فروغ میں مزید مدد دے گی۔"

اس موقع پر ثناء میر نے آئی سی سی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا "بطور موجودہ کرکٹر انٹرنیشنل ویمنز کمیٹی میں شمولیت کسی اعزاز سے کم نہیں۔ دنیا بھر میں خواتین کرکٹ تیزی سے فروغ پارہی ہے۔ کھیل کے فروغ کے لیے کمیٹی میں موجودہ کھلاڑیوں کا انتخاب آئی سی سی کا قابل ستائش عمل ہے۔"

"ہم کھلاڑیوں کی آواز بنتے ہوئے کمیٹی کی ہدایات پر خواتین کرکٹرز کو اعتماد میں لیں گے۔ کمیٹی کا حصہ بننے پر میں بہت خوش ہوں، کوشش کروں گی کہ خواتین کرکٹ کے فروغ میں اپنا کردار ادا کرسکوں۔"

آئی سی سی ویمنز کمیٹی میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر وسیم خان بھی شامل ہیں۔ ایم ڈی پی سی بی وسیم خان آئی سی سی کے مستقل اراکین کی فہرست میں سے منتخب کیے گئے دو اراکین میں سے ایک ہیں۔

– ENDS –

Media contact:

**Ibrahim Badees Muhammad**

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: [ibrahim.badees@pcb.com.pk](mailto:ibrahim.badees@pcb.com.pk)

M: +92 (0) 345 474 3486

W: [www.pcb.com.pk](http://www.pcb.com.pk)

### **ABOUT THE PCB**

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its goal is to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout the country.

The PCB's purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men's and women's cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket centres across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral series.

The PCB is committed to developing ground and facility infrastructure, monitoring the implementation of playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high quality training

provision for officials and coaches.

Commercial Partners



[www.pcb.com.pk](http://www.pcb.com.pk) ●  
@therealpcb ●  
@PakistanCricketBoard ●  
@PakistanCricketOfficial ●  
@therealpcb ●

**PCB Headquarters**  
Gaddafi Stadium  
Ferozpur Road, Lahore  
Pakistan, PO Box 54000  
T: +92 42 3571 7231-4